



Staten Island کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی اموات، 2022

Staten Island کے باشندوں کی موت فی 100,000 منشیات کی زائد خوراک کی وجہ سے ہوئی۔ **38.0**

Staten Island کے باشندے نشہ کی زائد خوراک کے سبب فوت ہوئے۔ **152**



Staten Island کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی موت کی دوسری اعلیٰ ترین شرح تھی۔

Staten Island کے باشندوں میں زائد خوراک میں ہونے والی اموات سب سے کم تھیں۔





Staten Island کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی موت کی اعلیٰ ترین شرح تھی۔ 35 تا 54 سال کی عمر کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی موت کی اعلیٰ ترین شرح تھی۔

Staten Island کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی موت کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ 35 تا 54 سال کی عمر کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی موت کی سب سے بڑی تعداد تھی۔




Staten Island کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی موت کی اعلیٰ ترین شرح تھی۔ کال فام کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی موت کی اعلیٰ ترین شرح تھی۔

Staten Island کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ سفید فام کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی تعداد تھی۔



نشہ کی زائد خوراک سے ہونے والی اموات میں شامل ممنوعات (زائد خوراک سے ہونے والی اموات میں ایک سے زائد ممنوعات شامل ہو سکتی ہیں):



ماخذ: نیو یارک سٹی کے دفتر برائے چیف میڈیکل ایگزامینر اور نیو یارک سٹی کے محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت کے بیورو برائے اہم اعداد و شمار، 2022۔ تجزیہ بذریعہ بیورو برائے الکل، نشہ کا استعمال، روک تھام، نگہداشت اور علاج۔ 2022 کا ڈیٹا عارضی ہے اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔